

## برامپٹن کے مستقبل کو شکل دینے میں مدد کریں

### سٹی کمیونٹی سے اپنے نئے برامپٹن آفیشل پلان - "برامپٹن پلان" پر رائے مانگ رہا ہے

برامپٹن، آن (22 مارچ، 2021) - سٹی آف برامپٹن اپنے برامپٹن پلان کے متعلق رہائشیوں، کاروباروں کے مالکان، کمیونٹی گروپوں اور اہم فریقین سے رائے حاصل کرنے کے لیے بروز ہفتہ، 10 اپریل کو صبح 10 تا دن 12 بجے تک پورے شہر کے لیے عوامی ورکشاپ، [برامپٹن پلان: سٹی سٹرکچر ورک شاپ](#)، کی میزبانی کر رہا ہے۔

یہ ورکشاپ رائے حاصل کرنے کے لیے عوامی تقریبات کے ایک تسلسل کا حصہ ہے، جبکہ سٹی آف برامپٹن اپنے برامپٹن پلان کے اگلے مرحلے، سٹیز آفیشل پلان ریویو، میں داخل ہو رہا ہے۔ برامپٹن پلان سٹی کی مستقبل میں بڑھوتری اور ترقی کے لیے ایک منصوبہ کار تیار کرے گا۔ 2021 کے دوران، برامپٹن 2040 ویژن کے تحت شہریوں، کمیونٹی گروپوں اور ایجنسیوں، آبائی لوگوں، تعمیر کاروں، مقامی اہم فریقین اور دیگر حکومتی درجات کے ساتھ وسیع پیمانے پر کمیونٹی مشاورت کے عمل کو جاری رکھے گا۔ یہ آراء برامپٹن کے لیے ایک زیادہ متنوع، ماحولیاتی طور پر قابل استحکام اور صحت بخش تر مستقبل کی تعمیر کو ممکن بنائیں گی۔

کمیونٹی کی رائے سٹی کونسل کی رہنمائی میں مدد کرے گی۔ کونسل سے منظور کے بعد، برامپٹن میں مستقبل کی بڑھوتری اور ترقی کو منظم کرنے اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے، برامپٹن پلان ایک قانونی ڈھانچہ تشکیل دے گا۔ برامپٹن پلان اس بات کا تعین کرے گا کہ گھر، دوکانیں اور کاوربار، پارکس، پیدل راستے اور قدرتی خط کہان بنیں گے اور اس کے علاوہ یہ کہ 700,000 سے زائد افراد کے اس تیزی سے بڑھتے شہر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سڑکوں، ٹرانزٹ اور دیگر ضروری انفراسٹرکچر کی ضرورت کہاں ہے۔

برامپٹن کے 2006 کے گزشتہ آفیشل پلان کے بعد، سٹی کینیڈا کا نواں بڑا شہر بن چکا ہے اور اس کی آبادی صوبائی اوسط سے تین گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ صوبائی اور علاقائی منصوبہ بندی کی پالیسیوں میں بھی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ برامپٹن پلان اپنے برامپٹن 2040 ویژن: موسوی بن کر رہنا کے عزم کو پورا کرنے اور ساتھ ہی ساتھ کونسل کے اس دور کی ترجیحات کو ممکن بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی ان پالیسیوں کو سٹی کے حکمت عملی کے تحت منصوبوں، پراجیکٹس اور ترقی کے ساتھ ہموار کرے گا۔

رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ جاری اقدامات کے متعلق مزید جاننے، آنے والی تقریبات کے لیے رجسٹر ہونے اور اپنے لیے اہم چیزوں کے متعلق ہمارے پول میں شرکت کرنے کے لیے [Brampton.ca/BramptonPlan](http://Brampton.ca/BramptonPlan) ملاحظہ کریں۔ سوالات یا تبصروں کے لیے ای میل کریں [sqmail/src/compose.php?send\\_to=opreview@brampton.ca](mailto:sqmail/src/compose.php?send_to=opreview@brampton.ca)۔

### اقتباسات

"سٹی آف برامپٹن میں ہمارے ہر کام کے مرکز میں لوگ ہوتے ہیں۔ ہم ترقی کے لیے شراکت داری بھی کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ برامپٹن پلان کے لیے عوامی رائے بہت ضروری ہے، تاکہ مستقبل میں ہماری بڑھوتری اور ترقی کی راہ میں سٹی آف برامپٹن کی رہنمائی کی جا سکے۔ مشاورت کے اس پورے عمل کے دوران، ہم تمام لوگوں سے ایک ایسے مشمول شہر کی تعمیر کے بارے میں رائے مانگ رہے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن 2040 ویژن: موسوی بن کر رہنا برامپٹن کے لیے ایک زیادہ قابل استحکام اور متنوع مستقبل ظاہر کرتا ہے۔ برامپٹن پلان اس عمل کا ایک اہم جزو ہے اور ہم اپنے آفیشل پلان ریویو کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہوئے رہائشیوں کے ساتھ رابطے کو بڑھانے کے لیے پر امید ہیں۔ ایک ساتھ مل کر، ہم ایک ایسا معقول اور سوچا سمجھا فریم ورک تیار کریں گے، جو یقینی بنائے گا کہ سٹی کی تمام منصوبہ بندی، پراجیکٹس اور ترقی مل کر سٹی کے طویل مدتی نظریے کے نفاذ کے لیے کام کر رہی ہو۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی، سٹی آف برامپٹن

"پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے وائس چیئر کے طور پر، اس بات کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجیح ہے کہ برامپٹن اس انداز سے ترقی کرے، جو ہماری پوری کمیونٹی کو فائدہ پہنچائے، ریجنل آفیشل پلان سے مطابقت رکھتا ہو اور برامپٹن کے مستقبل کے لیے ایک راہ واضح کر سکے۔ میں رہائشیوں اور اہم فریقین کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ سٹی کے نئے آفیشل پلان کی تیاری کے دوران شرکت کریں اور اپنے خیالات شریک کریں۔"

- ہیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8؛ وائس چیئر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، کمیٹی، سٹی آف برامپٹن

"2006 میں برامپٹن کے پچھلے آفیشل پلان کی منظوری کے بعد ہماری آبادی میں 61 فیصد سے زیادہ اضافے کے ساتھ، ہمارے شہر نے بڑی ترقی اور تبدیلی دیکھی ہے۔ برامپٹن ایک متحرک شہر ہے، جو ایک قابل فخر ماضی اور ایک روشن مستقبل کا حامل ہے۔ برامپٹن پلان سٹی آف برامپٹن کے اس خیر مقدم کہنے والے شہر، جو ہم ہیں اور اس کمیونٹی، جو ہر کوئی چاہتا ہے، میں بڑھنے اور تبدیل ہونے کو جاری رکھنے کے عمل کو منظم کرے گا۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹس

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)